

امام کے ظہر و عصر میں آہستہ اور بقیہ میں بلند آواز سے قرأت کرنے کی وجہ  
الحمد لله والصلوة والسلام على رسول الله  
الاستفتاء: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین اس مسئلہ کے بارے میں  
کہ امام ظہر و عصر میں آہستہ قرأت کیوں کرتا ہے اور باقی میں زور سے  
کیوں؟

سائل: آفتاب-انگلینڈ

بسم الله الرحمن الرحيم  
الجواب بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَالصَّوَابِ  
اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ابتدائے اسلام میں کفار کا غلبہ تھا۔ وہ قرآن  
شریف سن کر رب تعالیٰ اور جبرئیل اور حضور علیہما السلام کی شان میں  
بکواس بکتے تھے۔ ان ہی دو وقتوں میں وہ آوارہ گھومتے رہتے تھے۔ اس  
لیے ان دونمازوں میں آہستہ قرأت کا حکم ہوا۔ اور مغرب میں کھانے میں  
مشغول ہو جاتے تھے۔ عشاء میں سو جاتے تھے۔ فجر میں جاگتے نہ تھے۔  
اب اگرچہ وہ حالت نہ رہی مگر حکم وہ ہی رہے گا تاکہ مسلمان اس  
مغلوبیت کو یاد کر کے اب غلبہ اسلام پر خدا کر شکر کرتے رہیں اور اصل  
فقہی وجہ یہ ہے کہ نبی کریم ﷺ نے بحالتِ جماعت ہمیشہ ایسا ہی کیا یعنی  
ظہر و عصر میں آہستہ قرأت فرمائی اور بقیہ تین نمازوں میں بلند آواز  
سے قرأت فرمائی اور مسلمانوں پر آپ ﷺ کی اتباع فرض ہے۔

وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ وَرَسُوْلُهُ أَعْلَمُ عَزَّوَجَلَّ وَ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ  
کتبہ ابو الحسن محمد قاسم ضیاء قادری

Date :4-12-2016

## The reason why the Imām recites quietly in Zuhr and ‘Asr and audibly in the rest

الحمد لله والصلوة والسلام على رسول الله

### QUESTION:

**What do the scholars of the Dīn and muftīs of the Sacred Law state regarding the following issue: Why does the Imām recite quietly in Zuhr & ‘Asr and audibly in the rest?**

Questioner: Aftab from U.K.

### ANSWER:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
الجواب بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَالصَّوَابِ

One reason for this is that at the start of Islām, there was a prevalence of non-Muslims. They used to blabber regarding the status of the Lord Almighty, the Noble Messenger ﷺ and Sayyidunā Jibrīl, upon whom be peace, whilst listening to the Qur’ān. They used to wander about during these two times [i.e. Zuhr and ‘Asr]; this is why we are commanded to recite quietly during these two Salāhs. They would be busy eating during Maghrib time, go sleep at ‘Ishā’ and did not awake at Fajr. Even though this is not the case nowadays, however the ruling will still be the same, so that Muslims, remembering this prevalence, thank Allāh ﷻ for the prevalence of Islām which is present today. The actual reason in terms of Fiqh [jurisprudence] is that the Noble Prophet ﷺ would always do so, whilst in Jamā’ah [congregation], in other words, he ﷺ would recite quietly in Zuhr & ‘Asr and would recite in an audible voice in the remaining Salāhs; and it is fard [obligatory] for Muslims to follow the Beloved Messenger ﷺ.

والله تعالى اعلم ورسوله اعلم صلى الله عليه وآله وسلم  
كتبه ابو الحسن محمد قاسم ضياء قادري

**Answered by Mufti Qasim Zia al-Qadri**

Translated by Haider Ali